

(vii) Monogamous, Monogenous

(viii) Postilion, Posterior

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions. (10)

استعماریت پسند انگریزی اقدار کے سامنے خوش آمدانہ اور فرما نبردانہ طرز عمل کے برخلاف، جسے برطانوی حکمرانوں نے فروغ دیا تھا اور جسے اہل ہند نے اس دور میں اختیار کر رکھا تھا۔ سید احمد خاں اور ان کے اعلیٰ مرتبت اور روشن دماغ فرزند سید محمود دونوں نے ایسا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی گو یا وہ انگریزوں کے مساوی اور ہم مرتبہ ہوں۔ سن ۱۸۶۷ء کے آگرہ دربار کا واقعہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری ہندوستانی قوم کو بخوبی معلوم تھا۔ سید احمد خاں نے اس دربار سے اس لیے علیحدگی اختیار کی تھی کہ وہاں ہندوستانیوں کو انگریزوں کے مقابلے میں کم تر درجے کی نشست فراہم کی گئی تھی۔ اس دربار میں سید احمد خاں کو ایک تمغہ عطا کیا جانے والا تھا۔ بعد میں میرٹھ کے کمشنر ویلیمس کو یہ خدمت تفویض کی گئی کہ وہ علی گڑھ ریلوے اسٹیشن جا کر سید احمد خاں کو تمغہ پیش کریں۔

(Max. marks = 10)

Q.7 Translation

Colonists opposed to grateful and submissive manner of action in front of English values, which British leaders gave honour and which people of India adopted in this period. Syed Ahmad Khan and his high status and bright mind son Syed Mahmood both tried to embrace such a behaviour that probably they were colleague and coordinator of English. Incident of ^{tomb} ~~patience~~ of 1867 was not only ^{thoroughly} known to Muslims but also Indian nation. ~~It is~~ ~~that~~ ~~the~~ ~~reason~~ ~~is~~ Syed Ahmed Khan endorsed separation with this caste because Indians were provided with less seats than English. In this shrine, Syed Ahmed Khan had to bestowed a prestige. Later on Welims the commissioned of meoath was delegated this service to present this privilege on the Aligarh railway station.